

## اسلامیات کے سابقہ پرچہ جات کے حل شدہ مختصر سوالات

سابقہ پرچہ 2013

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 درج ذیل آیت مبارکہ کا ترجمہ و تشریح لکھیں؟  
الَّذِينَ آوَلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔

ج: 1 ترجمہ: یہ نبی (مکرم) مومنوں کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ قریب اور حق دار ہیں اور آپ کی ازواج (مطہرات) ان کی مائیں ہیں۔

تشریح:

علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں اس آیت کے تحت رقمطراز ہیں

مومن کا ایمان اگر غور سے دیکھا جائے تو ایک شعاع ہے اس نور اعظم کی جو آفتاب نبوت سے پھیلتا ہے۔ آفتاب نبوت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہوئے، بناء بریں مومن (من حیث ہو مومن) اگر اپنی حقیقت سمجھنے کے لیے حرکت فکری شروع کرے تو اپنی ایمانی ہستی سے پیشتر اس کو پیغمبر علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنی پڑے گی اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا وجود مسعود خود ہماری ہستی سے بھی زیادہ ہم سے نزدیک ہے اور اگر اس روحانی تعلق کی بناء پر

کہہ دیا جائے کہ مومنین کے حق میں نبی بمنزلہ باپ کے بلکہ اس سے بھی بمراتب بڑھ کر ہے تو بالکل بجا ہو گا۔۔۔۔۔

باپ بیٹے کے تعلق میں غور کرو تو اس کا حاصل یہ ہی نکلے گا کہ بیٹے کا جسمانی وجود باپ کے جسم سے نکلا ہے اور باپ کی تربیت و شفقت طبعی اوروں سے بڑھ کر ہے لیکن نبی اور امتی کا تعلق کیا اس سے کم ہے؟ یقیناً امتی کا ایمانی و روحانی وجود نبی کی روحانیت کبریٰ کا پر تو اور ظل ہوتا ہے اور جو شفقت و تربیت نبی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہے ماں باپ تو کیا تمام مخلوق میں اس کا نمونہ نہیں مل سکتا۔ باپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کی عارضی حیات عطا فرمائی تھی۔ لیکن نبی کے طفیل ابدی اور دائمی حیات ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری وہ ہمدردی اور خیر خواہانہ شفقت و تربیت فرماتے ہیں جو خود ہمارا نفس بھی اپنی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پیغمبر کو ہماری جان و مال میں تصرف کرنے کا وہ حق پہنچتا ہے جو دنیا میں کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ "نبی نائب ہے اللہ کا، اپنی جان و مال میں اپنا تصرف اتنا نہیں چلتا جتنا نبی کا چلتا ہے۔ اپنی جان و ہمتی آگ میں ڈالنا روا نہیں اور اگر نبی حکم دیدے تو فرض ہو جائے"۔ ان ہی حقائق پر نظر کرتے ہوئے احادیث میں فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک باپ، بیٹے اور سب آدمیوں بلکہ اس کی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔

ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں، یعنی دینی مائیں ہیں تعظیم و احترام میں اور بعض احکام جو ان کے لیے شریعت سے ثابت ہوں، کل احکام میں نہیں۔

(تفسیر عثمانی)

س: 2 درج ذیل حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح لکھیے؟

عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ»

ج: 2 ترجمہ: عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ کی تشریح یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے تو اسے اس کے ایک حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی اچھا ہے کیونکہ اس طرح سے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔

س: 3 سورة الفرقان کی روشنی میں "عباد الرحمن" کی کوئی دو خصوصیات درج کیجیے؟

ج: 3 سورة الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن کی دو خصوصیات درج ذیل ہیں:

1۔ وہ زنا نہیں کرتے۔

2۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔

س: 4 سورة الاحزاب میں بیان کردہ ختم نبوت کی آیت کا ترجمہ لکھیے؟

ج: 4 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔

(سورة نمبر 33، آیت نمبر 40)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں (سلسلہ نبوت ختم کرنے والے) ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔

(سورة نمبر 33، آیت نمبر 40)

س: 5 حواری کسے کہتے ہیں؟

ج: 5 حواری: حواری کا مطلب ہے "تابع" یا "منہ والا"۔ اس کا استعمال عام طور پر عیسائی مذہب میں کیا جاتا ہے، جہاں یہ لفظ عیسا علیہ السلام کے ہمراہ چلنے والے اپنے تابعین یا مریدین کے لئے استعمال ہوتا ہے۔



س: 6 سورة الحجرات کی روشنی میں کوئی دو معاشرتی خرابیوں کا تذکرہ کیجیے؟

ج: 6 سورة الحجرات کی روشنی میں دو معاشرتی خرابیاں درج ہیں:

**1 غیبت:** اس سورة میں غیبت کی نہیں کرنے کی ترغیب کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی کو برے بھلے کی پیشگوئی کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لی جائے۔

**2 تنازعات اور اختلافات:** اس سورة میں معاشرتی خرابیوں میں تنازعات اور اختلافات کا بھی ذکر ہے۔ اس میں انسانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ وہ اختلافات کو حل کرنے کے لئے صلح و مصالحت کریں اور برابری اور انصاف کے ساتھ برتاؤ کریں۔

س: 7 آنحضور ﷺ نے کن چار باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے؟

ج: 7 آنحضور ﷺ نے درج ذیل چار باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے:

- 1- غیر نافع علم سے پناہ۔
- 2- نہ ڈرنے والے دل سے پناہ۔
- 3- سیر نہ ہونے والے نفس سے پناہ۔
- 4- غیر مقبول دعا سے پناہ۔

## سابقہ پرچہ 2014

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 درج ذیل آیت مبارکہ کا ترجمہ و تشریح لکھیے؟

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

ج: 1 ترجمہ: بیشک تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ (کی سیرت) میں اسوۂ حسنہ (عمدہ نمونہ) موجود ہے۔

تشریح: اس آیت مبارکہ کی تشریح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، معاشرتی ہو یا غیر معاشرتی ہو، اقتصادی ہو یا معاشی ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، جنگی ہو یا دفاعی ہو۔ ہر پہلو میں بنی نوع انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔

س: 2 زیر نظر حدیث مبارکہ کا ترجمہ و تشریح لکھیے؟

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ »

ج: 2 ترجمہ: عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ کی تشریح یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے تو اسے اس کے ایک حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی اچھا ہے کیونکہ اس طرح سے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔

س: 3 سورة بقرۃ کی روشنی میں متقین کی چار صفات درج کیجیے؟

ج: 3 سورة بقرۃ کی روشنی میں متقین کی چار صفات درج ذیل ہیں:

1۔ نماز قائم کرنا۔

2۔ غیب پر ایمان رکھنا۔

3۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

4۔ آخرت پر ایمان رکھنا۔

س: 4 فرضیت نماز پر ایک آیت مبارکہ لکھیے؟

ج: 4 وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاشِقِينَ۔

(البقرة، سورة نمبر 2، آیت نمبر 43)

"اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ (مل کر) رکوع کیا کرو۔"

س: 5 نبی اکرم ﷺ نے کن چار باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے؟

ج: 5 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درج ذیل چار باتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے:

1۔ غیر نافع علم سے پناہ۔

2۔ نہ ڈرنے والے دل سے پناہ۔

3۔ سیر نہ ہونے والے نفس سے پناہ۔

4۔ غیر مقبول دعا سے پناہ۔

س: 6 میثاقِ مدینہ کی دو دفعات لکھیں؟

ج: 6 میثاقِ مدینہ کی دو دفعات درج ذیل ہیں:

1- خون بہا اور فدیہ کا قدیم طریقہ جاری رہے گا۔

2- فریقین کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔

س: 7 غیبت اور بہتان میں کیا فرق ہے؟

ج: 7 غیبت: کسی کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا جو اس کے اندر موجود ہو اور اس کے سامنے کرنے سے اسے یہ بات ناگوار لگے۔

بہتان: کسی کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا جو اس کے اندر ہی نہ ہو۔ یعنی اس پر تہمت اور الزام لگانا۔

## سابقہ پرچہ 2015

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 اسلامی تہذیب کے عوامل لکھیے؟

ج: 1 بنیادی عقائد، توحید، رسالت، فرشتوں اور کتب پر ایمان کو اسلامی تہذیب کے عوامل کہا جاتا ہے۔

س: 2 "تبرج الجاہلیہ" سے کیا مراد ہے؟

ج: 2 "تبرج الجاہلیہ" سے مراد عورتوں کا عہد جاہلیت کی زیب و زینت کر کے غیر مردوں کے سامنے آنا اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا۔

س۔ 3 دلوں میں چھپی باتوں کو کون جانتا ہے؟ ایک قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ لکھیے؟

ج۔ 3 وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَذْ تُخْفَوْنَ مِنْهَا سَبَّحُ لِلَّهِ

ترجمہ: "اور دلوں میں چھپی باتوں کو اللہ جانتا ہے"۔

س: 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے نام لکھیے؟

ج: 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے نام یہ ہیں:

1۔ حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

2۔ حضرت زینب بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔



س: 5 زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے؟

ج: 5 زکوٰۃ: صاحب نصاب مسلمان کا اپنے مال میں سے سال گزرنے کے بعد ایک مقررہ شرح کے مطابق قرآن مجید کے بتائے ہوئے مصارف پر خرچ کرنے کا نام زکوٰۃ ہے۔

عشر: زرعی پیداوار سے حاصل کی گئی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ نہری زمین پر 10% اور بارانی زمین پر 5% ہے۔

س: 6 عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ چار کے نام لکھیے؟

ج: 6 عشرہ مبشرہ سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جن کو دنیاوی زندگی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی ہو۔

چار عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کے نام درج ذیل ہیں:-

1- حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

2- حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

3- حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

4- حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

س: 7 ازواجِ مطہرات کے کوئی دو امتیازات سورۃ احزاب کی روشنی میں لکھیے؟

ج: 7 ازواجِ مطہرات کے دو امتیازات یہ ہے:-

1- پردہ کا اہتمام۔

2- نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی۔

س: 8 حدیث کی روشنی میں سچے تاجر کا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟

ج: 8 حدیث کی روشنی میں سچے تاجر کا انجام نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

س: 9 صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟

ج: 9 اس سے مراد حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں:-

1- صحیح بخاری۔

2- صحیح مسلم۔

3- سنن ابن ماجہ۔

4- جامع الترمذی۔

5- سنن ابوداؤد۔

6- سنن نسائی۔

س: 10 حدیث کا مفہوم بیان کریں؟

ج: 10 حدیث کا مفہوم: اس سے مراد وہ تمام اقوال، افعال اور تقاریر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

بیان فرمائے ہو۔

سابقہ پرچہ 2016

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 اسلامی تہذیب کے عناصر لکھیے؟

ج: 1 کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلامی تہذیب کے عناصر ہیں۔

س: 2 ترجمہ کیجیے۔ "انما المؤمنون اخوة"؟

ج: 2 ترجمہ: "مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں"۔

س: 3 سورة الحجرات میں بیان کردہ چند آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں؟

ج: 3 سورة الحجرات میں بیان کردہ چند آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں:-

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام لوگوں کی طرح گفتگو نہ کرو۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام میں اپنی آوازیں پست رکھو۔

س: 4 حدیث کا مفہوم واضح کریں؟

ج: 4 حدیث کا مفہوم: اس سے مراد وہ تمام اقوال، افعال اور تقاریر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہو۔

س: 5 میثاقِ مدینہ سے کیا مراد ہے؟

ج: مدینہ میں چار گروہ آباد تھے۔ مسلمان، منافقین، یہودی اور نصاری۔ ان تمام گروہوں کے مابین ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کے مطابق بیرونی طاقتوں کے حملہ آور ہونے پر تمام گروہ ان کا ملکر مقابلہ کریں گے۔ اسے میثاقِ مدینہ کہتے ہیں۔

س: 6 وضاحت کیجئے۔ "و قرن فی بؤتکن"۔

ج: 6 اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہری رہیں۔ بغیر کسی ضروری کام کے گھر سے باہر نہ نکلیں گویا یہاں وضاحت کر دی گئی ہے کہ عورتیں سیاسی اور معاشی جھمیلیوں میں نہ پڑیں بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سرانجام دیں۔

س: 7 مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں فرق واضح کریں؟

ج: 7 مرکب اضافی: ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافیت (تعلق / نسبت) دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔  
اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔

مرکب توصیفی: ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔

س: 8 سچے تاجر کا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟

ج: 8 سچے تاجر کا انجام نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

س: 9 درود پڑھنے کا کیا اجر ہے؟

ج: 9 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔

س: 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے چار کے نام لکھیے؟

ج: 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے چار کے نام درج ذیل ہیں:-

1۔ ام المؤمنین حضرت امی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

2۔ ام المؤمنین حضرت امی ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

3۔ ام المؤمنین حضرت امی حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

4۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

03204815180



## سابقہ پرچہ 2017

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 تنذیر کسے کہتے ہیں؟

ج: 1 تنذیر: ”تنذیر“ یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح استعمال یا خرچ کیا جائے کہ وہ ضائع اور برباد ہو جائے۔ مثلاً دو مہمانوں کے لئے دس آدمیوں کا کھانا پکایا جائے اور بچے ہوئے کھانے کو کوڑے دان میں ڈال کر برباد کر دیا جائے جیسا کہ بعض ثروت مند افراد ایسا ہی کرتے ہیں۔

س: 2 عشر کی شرح کیا ہے؟

ج: 2

عشر کی شرح نہری زمین پر 10% فیصد ہوتی ہے۔

عشر کی شرح بارانی زمین پر 5% فیصد ہوتی ہے۔

س: 3 رسول کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟

ج: 3 رسول کے لغوی معنی ہیں: "پیغام پہنچانے والا"۔

اور شریعت کی اصطلاح میں رسول اُسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے۔

س: 4 کتنی عمر کے بچوں کو نماز سکھانے کا حکم دیا گیا ہے؟

ج: 4 وعن أبي ثرية سبرة بن معبد الجهمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ»۔

ترجمہ: "ابو ثریہ سبرہ بن معبد جہمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھاؤ اور جب وہ دس سال کا ہو جائے تو اسے اس (کے نہ پڑھنے) کی وجہ سے مارو"

س: 5 جہاد کی کوئی سی چار اقسام لکھیے؟

ج: 5 جہاد کی چار اقسام درج ذیل ہیں:-

1- جہاد بالمال۔

2- جہاد بالسیف و جہاد بالقتال۔

3- جہاد بالنفس۔

4- جہاد بالقلم۔

س: 6 چار مشہور الہامی کتابوں کے نام لکھیں؟

ج: 6 چار مشہور الہامی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں:-

1- تورات۔

2- زبور۔

3- انجیل۔

4- قرآن مجید۔

س: 7 ازواجِ مطہرات کے کوئی دو امتیازات لکھیے؟

ج: 7 ازواجِ مطہرات کے دو امتیازات یہ ہے:-

1- پردہ کا اہتمام۔

2- نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی۔

س: 8 صلح نامہ حدیبیہ کی شرائط میں سے کوئی دو لکھیے؟

ج: 8 صلح نامہ حدیبیہ کی دو شرائط یہ ہیں:-

1- فریقین دس سال تک جنگ نہیں کریں گے۔

2- مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے۔

س: 9 امین الامت کس صحابی کا لقب ہے؟

ج: 9 امین الامت کا لقب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ یہ لقب ان کی امانت داری اور

امینیت کی بنا پر دیا گیا تھا۔

س: 10 غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟

ج: 10 غزوہ: وہ جنگ جس میں نبی کریم ﷺ نے خود لشکر کے ساتھ شرکت کی ہو۔ اسے غزوہ کہتے ہیں۔

سریہ: وہ جنگ جس میں نبی کریم ﷺ نے خود لشکر کے ساتھ شرکت نہ کی ہو۔ اسے سریہ کہتے ہیں۔

03204815186

سابقہ پرچہ 2018

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 اسلامی تہذیب کے عناصر لکھیے؟

ج: 1 کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلامی تہذیب کے عناصر ہیں۔

س: 2 ترجمہ کیجیے۔ "انما المؤمنون اخوة"؟

ج: 2 ترجمہ: "مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں"۔

س: 3 سورة الحجرات میں بیان کردہ چند آدابِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں؟

ج: 3 سورة الحجرات میں بیان کردہ چند آدابِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں:-

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام لوگوں کی طرح گفتگو نہ کرو۔

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام میں اپنی آوازیں پست رکھو۔

س: 4 حدیث کا اصطلاحی مفہوم واضح کریں؟

ج: 4 حدیث کا اصطلاحی مفہوم: اس سے مراد وہ تمام اقوال، افعال اور تقاریر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہو۔

س: 5 میثاقِ مدینہ سے کیا مراد ہے؟

ج: 5 مدینہ میں چار گروہ آباد تھے۔ مسلمان، منافقین، یہودی اور نصاری۔ ان تمام گروہوں کے مابین ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کے مطابق بیرونی طاقتوں کے حملہ آور ہونے پر تمام گروہ ان کا ملکر مقابلہ کریں گے۔ اسے میثاقِ مدینہ کہتے ہیں۔

س: 6 سورة الاحزاب میں پردے کے بارے میں کیا حکم ہے؟

ج: 6 اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو جیسے کھانے کیلئے بلایا جائے۔ یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بیشک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کیلئے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور تمہارے لئے ہر گز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بیشک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بیشک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔



س: 7 مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں فرق واضح کریں؟

ج: 7 مرکب اضافی: ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اضافیت (تعلق / نسبت) دوسرے اسم کی طرف کی جائے۔  
اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔

مرکب توصیفی: ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہو اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو۔ اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔

س: 8 سچے تاجر کا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟

ج: 8 سچے تاجر کا انجام نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

س: 9 حدیث جبرائیل سے کیا مراد ہے؟

ج: 9 اس سے مراد وہ حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور چار سوالات پوچھتے ہیں۔ اسلام سے متعلق، ایمان سے متعلق، احسان سے متعلق، قیامت سے متعلق۔

س: 10 حصول علم کے حوالے سے کوئی ایک حدیث مع ترجمہ لکھیے؟

ج: 10 "طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم"۔

ترجمہ: "علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے"۔

03204815186  
عبد خان

## سابقہ پرچہ 2019

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 "قرن فی یوتکن" کا کیا معنی ہے؟

ج: 1 "اپنے گھروں میں وقار سے رہو"۔ قرن، وقریتر سے ہے معنی ہیں بھاری ہوا، اپنی جگہ پر ٹھہر گیا۔ اس کے لغوی معنی یہ نہیں کہ گھروں کے اندر بند رہیں اور گھروں سے باہر ہی نہ نکلیں۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس طرح کی عورت کی اصل جگہ اسکا گھر ہے۔

س: 2 عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ نام لکھیں۔

ج: 2 ان سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جن کو دنیاوی زندگی میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کا بشارت ملی ہو۔

1۔ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

2۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

3۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

4۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

5۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

6۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

7۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

8۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

9۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

10۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

س: 3 میثاق مدینہ سے کیا مراد ہے؟

ج: 3 مدینہ میں چار گروہ آباد تھے۔ مسلمان، منافقین، یہودی اور نصاری۔ ان تمام گروہوں کے مابین ایک معاہدہ طے پایا گیا جس کے مطابق بیرونی طاقتوں کے حملہ آور ہونے پر تمام گروہ ان کا ملکر مقابلہ کریں گے۔ اسے میثاق مدینہ کہتے ہیں۔

س: 4 حدیثِ جبرائیلؑ میں "احسان" کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے؟

ج: 4 تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

س: 5 ہجرت مدینہ کب ہوئی؟

ج: 5 13 نبوی 27 صفر۔ 622 عیسوی۔

س: 6 تہذیب کے لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں؟

ج: 6 لغوی معنی: کانٹ چھانٹ کر نا، پاک کرنا۔

اصطلاحی معنی: خاص ذہنی ساخت جس سے افراد ملت کے سیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔

س: 7 سورة الاحزاب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے والوں کو کیا وعید سنائی گئی ہے؟

ج: 7 ترجمہ: "بے شک جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔"

س: 8 تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟

ج: 8 تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ نفس انسانی میں موجود شر کے فطری غلبہ کو دور کرنا اور اسے گناہوں کی آلودگیاں اور آلائشوں سے پاک کرنا۔

س: 9 سچے تاجر کا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟

ج: 9 سچے تاجر کا انجام نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔

س: 10 فاسق کسے کہتے ہیں؟

ج: 10 فاسق کا مطلب ہے کوئی شخص جو اسلامی اصولوں یا قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی شخص جو اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے یا ان کو نظر انداز کرتا ہے۔

مثال: فاسق کی تعریف میں شراب پینا، زنا، جعلی گواہی دینا، چوری کرنا، یا دیگر اسلامی اصولوں کی خلاف ورزیاں شامل ہو سکتی ہیں۔

سابقہ پرچہ 2020

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 چار مشہور الہامی کتابوں کے نام لکھیں؟

ج: 1 چار مشہور الہامی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں:-

1- تورات۔

2- زبور۔

3- انجیل۔

4- قرآن مجید۔



س: 2 خدمت خلق کے بارے میں مختلف مذاہب کے نظریات بیان کیجے؟

ج: 2 خدمت خلق کے بارے میں مختلف مذاہب کے نظریات:

اسلام: اسلام میں خدمت خلق کو اہم اور پر امن دانا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی خدمت خلق کی اہمیت کو بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلامی نظریہ میں خدمت خلق کو ایک اہم عبادت اور راہِ راست کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔

ہندو دھرم: ہندو دھرم میں بھی خدمت خلق کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس کے تحت، خدمت خلق کو ایک اہم اخلاقی اور دھرمیک فرض تصور کیا جاتا ہے۔

مسیحیت: مسیحیت میں بھی خدمت خلق کو اہمیت دی جاتی ہے۔ عیسائی مذاہب میں عیسائیوں کو انجیلی اصولوں کے تحت دوسروں کی خدمت کرنے کی سرگرمی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

لیکن خدمت انسانیت یہ اسلام کا طریقہ امتیاز اور مسلمانوں کا بنیادی وصف ہے۔

س: 4 صلح نامہ حدیبیہ کی کوئی سی دو شرائط لکھیں؟

ج: 4 صلح نامہ حدیبیہ کی دو شرائط یہ ہیں:-

1- فریقین دس سال تک جنگ نہیں کریں گے۔

2- مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے۔

س: 5 سورة الاحزاب میں پردے کا کیا حکم ہے؟

ج: 5 اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو جیسے کھانے کیلئے بلایا جائے۔ یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ پھر جب کھانا کھالو تو چلے جاؤ اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بیشک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کیلئے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے اور تمہارے لئے ہر گز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بیشک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بیشک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

س: 6 "وبالآخرة هم يوقنون" آیت کا ترجمہ بیان کریں؟

ج: 6 ترجمہ: "اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔"

س: 7 ترجمہ کیجیے۔ "انما المؤمنون اخوة"؟

ج: 7 ترجمہ: "مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔"

س: 8 تفکر و تدبر پر قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں؟

ج: 8 بِسْمِ اللَّهِ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔

ترجمہ: اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔

س: 9 قرآن کا علم سیکھنے کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کریں؟

ج: 9 عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّاهُ»

ترجمہ: عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔

س: 10 تفسیر روح المعانی اور فی ظلال القرآن کے مصنفین کے نام لکھیں؟

ج: 10 تفسیر روح المعانی: شہاب الدین محمود اللوسی۔

فی ظلال القرآن: سید قطب۔

## سابقہ پرچہ 2021

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 حروفِ مقطعات کی مختصر وضاحت کریں؟

ج: 1

قرآن مجید میں استعمال ہونے والے وہ عربی ابجد کے (السور عربی: مقطعات، أوائل السور، فواتح) حروفِ مقطعات حروف ہیں جو قرآن کی بعض سورتوں کی ابتدائی آیت کے طور پر آتے ہیں۔ مثلاً الم، المرو غیرہ۔ یہ عربی زبان کے ایسے الفاظ نہیں ہیں جن کا مطلب معلوم ہو۔ ان پر بہت تحقیق ہوئی ہے مگر ان کا مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے۔

س: 2 حدیث کی کوئی سی چار کتابوں کے نام لکھیں؟

ج: 2 حدیث کی چار کتابوں کے نام یہ ہیں:-

1- صحیح بخاری-

2- صحیح مسلم-

3- سنن ابن ماجہ-

4- جامع الترمذی-

س: 3 ترجمہ کریں: "فیبلغ الشاهد الغائب"۔

ج: 3 ترجمہ: "جو یہاں حاضر ہیں وہ ان تک بات پہنچادیں، جو حاضر نہیں ہیں"۔

س: 4 تہذیب کا لغوی و اصطلاحی مفہوم لکھیں؟

ج: 4

لغوی مفہوم:

تہذیب کا لغوی مفہوم ہے "کسی معاشرت یا ملک کی روایات، فنون، اور اصولوں کا مجموعہ"۔ یہ ایک معاشرتی نظام کی خصوصیات اور اس کی روایات کو ظاہر کرتا ہے۔

اصطلاحی مفہوم:

تہذیب کا اصطلاحی مفہوم ہے "ایک معاشرتی نظام یا ملک کی مخصوص روایات، فنون، اور اصولوں کا مجموعہ جو اس کی فرهنگ، تمدن، اور تربیت کو ظاہر کرتا ہے"۔ یہ معاشرتی اور ثقافتی معیاروں کو دیکھتے ہوئے ایک ملک یا معاشرت کی خصوصیات کو بیان کرتا ہے۔

س: 5 جملہ فعلیہ کی تعریف کریں؟

ج: 5 تعریف: جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی عمل یا حالت کا بیان ہوتا ہے۔ یہ جملہ واضح ہوتا ہے اور اس میں فاعل، فعل، اور مفعول کا تعین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، جملہ فعلیہ میں عمل کے وقت کی معلومات بھی ہوتی ہیں۔

س: 6 ترجمہ کریں: "اللهم انى اعوذ بك من الاربعة"۔

ج: 6 ترجمہ: اللہ! میں چار چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

س: 7 حدیث جبرائیلؑ کی روشنی میں "اسلام" سے کیا مراد ہے؟

ج: 7 حدیث جبرائیلؑ کی روشنی میں اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو اچھی طرح پابندی سے ادا کرے، اور زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے بشرطیکہ وہاں تک پہنچنے پر قادر ہو۔

س: 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار ازواجِ مطہرات کے نام لکھیے؟

ج: 8 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار ازواجِ مطہرات کے نام درج ذیل ہیں:-

1۔ ام المؤمنین حضرت امی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

2۔ ام المؤمنین حضرت امی ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

3۔ ام المؤمنین حضرت امی حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

4۔ ام المؤمنین حضرت امی عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔



س: 9 تدوین قرآن کے بارے مختصر لکھیں؟

ج: 9 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل قرآن مجید مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، سارے اجزاء الگ الگ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی تمام سورتوں کو ایک ہی تقطیع اور سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کروانے کا کام حکومتی اور اجماعی طور پر انجام دیا؛ چنانچہ ایسا نسخہ مرتب ہو گیا جس کو سارے صحابہ کرام کی اجماعی تصدیق حاصل ہوئی۔

س: 10 ختم نبوت پر آیت مبارکہ یا اس کا مفہوم لکھیں؟

ج: 10 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔

الأحزاب، 40:33

"محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں (سلسلہ نبوت ختم کرنے والے) ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔"

سابقہ پرچہ 2022

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 سورة الفرقان کی روشنی میں کوئی سے چار آدابِ معاشرت تحریر کریں؟

ج: 1 سورة الفرقان کی روشنی میں کوئی سے چار آدابِ معاشرت درج ذیل ہیں:-

1- شرک سے پرہیز کرنا۔

2- قتلِ ناحق سے بچنا۔

3- زنا سے بچنا۔

4- جھوٹ سے پرہیز کرنا۔

س: 2 متقین کی چار صفات تحریر کیجیے؟

ج: 2 متقین کی چار صفات درج ذیل ہیں:

1- نماز قائم کرنا۔

2- غیب پر ایمان رکھنا۔

3- اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔

4- آخرت پر ایمان رکھنا۔

س: 3 "و قرن فی یو تکلن" آیت کی وضاحت کیجیے۔

ج: 3 اس کا مطلب ہے کہ عورتیں اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہری رہیں۔ بغیر کسی ضروری کام کے گھر سے باہر نہ نکلیں گویا یہاں وضاحت کر دی گئی ہے کہ عورتیں سیاسی اور معاشی جھمیلیوں میں نہ پڑیں بلکہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر امور خانہ داری سرانجام دیں۔

س: 4 سورة الحجرات میں چار آدابِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر کریں؟

ج: 4 سورة الحجرات کی روشنی چار آدابِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں:-

- 1- نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آوازیں بلند نہ کرو۔
- 2- نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام لوگوں کی طرح گفتگو نہ کرو۔
- 3- نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام میں اپنی آوازیں پست رکھو۔
- 4- نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی نہ کرنا۔

س: 5 صلح حدیبیہ کی شرائط تحریر کیجیے؟

ج: 5 صلح حدیبیہ کی شرائط درج ذیل ہیں:-

☆ دس سال تک جنگ بند رہے گی۔

☆ قریش کا جو شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس بھاگ کر جائے گا اسے واپس کرنا ہو گا اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھیوں میں سے جو شخص قریش کے پاس جائے گا اسے واپس نہ کیا جائے گا۔

☆ قبائل میں سے کوئی قبیلہ کسی ایک فریق کا حلیف بن کر اس معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔

☆ محمد ﷺ عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے۔

س: 6 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ" کا ترجمہ تحریر کیجیے؟

ج: 6 ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔

تشریح: اس حدیث مبارکہ کی تشریح یہ ہے کہ اس میں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے تو اسے اس کے ایک حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی اچھا ہے کیونکہ اس طرح سے چراغ سے چراغ جلتا ہے۔

## سابقہ پرچہ 2023

س: 1 درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں؟

س: 1 رحن کے بندوں کی چار خصوصیات تحریر کیجیے؟

ج: 1 رحن کے بندوں کی چار خصوصیات درج ذیل ہیں:-

- 1- وہ زنا نہیں کرتے۔
- 2- جھوٹ نہیں بولتے۔
- 3- خرچ میں اعتدال کرتے ہیں۔
- 4- وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔

س: 2 تقویٰ کے بارے میں قرآنی آیت تحریر کریں؟

ج: 2 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ۔

ترجمہ: بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

س: 3 غیبت کے بارے میں قرآنی حکم تحریر کیجیے؟

ج: 3 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ لَّيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَكَوَّابٌ رَّحِيمٌ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! بہت گمانوں سے بچو بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہو گا اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

س: 4 اسلامی تہذیب کی چار خصوصیات تحریر کیجیے؟

ج: 4 اسلامی تہذیب کی چار خصوصیات عام طور پر مندرجہ ذیل ہوتی ہیں:

- 1۔ عدل و انصاف: اسلامی تہذیب عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے اور انصاف کے اصولوں کو پاسداری کرتی ہے۔
- 2۔ احسان و محبت: اسلامی تہذیب میں دوسروں کے ساتھ احسان اور محبت کا اظہار کرنے کی اہمیت ہوتی ہے۔
- 3۔ اخلاقی اصولوں کی پاسداری: اسلامی تہذیب میں اخلاقی اصولوں کی پاسداری اور ان کی عملی زندگی میں تطبیق کی ترغیب دی جاتی ہے۔
- 4۔ تعلیم و تربیت کی اہمیت: اسلامی تہذیب میں تعلیم و تربیت کی اہمیت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تاکہ ایک فرد اور ایک معاشرت کو بہتر بنایا جاسکے۔



س: 5 "کلم راع و کلم مسئولا عن رعیہ" اس حدیث کی وضاحت کیجیے؟

ج: 5 ترجمہ: "تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے؛

وضاحت: چنانچہ امیر نگہبان ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کا کی نگہبان ہے۔ اس طرح تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ: "تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ چنانچہ لوگوں کا امیر ان کا نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور ان کے بارے میں جواب دہ ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے اور غلام اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اور اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اس طرح تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔"

س: 6 میثاقِ مدینہ کی چار شرائط تحریر کیجیے؟

ج: 6 میثاقِ مدینہ کی چار شرائط درج ذیل ہیں:

- 1- مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔
- 2- بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔
- 3- ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگی۔
- 4- یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔